

Jubilee

LIFE INSURANCE



HBL

حفاظت
ایک محفوظ مستقبل کے لئے

زندگی کے سفر میں ہرگز رتے وقت کے ساتھ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے کہ آپ کی صحت کا خیال، آپ کی آمدنی، گھر، خاندان اور سب سے بڑھ کر ناگہانی صورتحال سے بچاؤ کا ذریعہ۔

جوبلی لائف انشورنس پیش کرتا ہے حفاظت پلان جسے خاص طور پر اس طرح ترتیب دیا گیا ہے جو آپ کے خاندان کو مالی غیر یقینی سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ آپ کی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ کرتا ہے۔

برائے مہربانی ایچ بی ایل کی نامزد کردہ برانچوں پر موجود جوبلی لائف کے نمائندوں سے رابطہ کر کے اپنی ضروریات کے مطابق مناسب پلان حاصل کریں۔ برانچوں کی تفصیلات www.hbl.com پر دستیاب ہیں۔

خصوصیات:

کم از کم 18 سال، زیادہ سے زیادہ 65 سال	عمر
زندگی بھر کے لئے	میچورٹی کے وقت عمر
سالانہ 18,000 روپے	کم از کم پرمیئم
ششماہی 9,000 روپے	
سہ ماہی 4,500 روپے	
ماہانہ 1,500 روپے	
کسٹمرز کی بیمہ اور بچت کی ضروریات کے مطابق 5 سے 254 گنا	کور ملٹیپل *
ریگولر سالانہ بنیادی پرمیئم x کور ملٹیپل	سم اشورڈ

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

تحفظ

نامزد درثناء کو انتہائی قابل قدر تحفظ پیش کیا جاتا ہے جو پالیسی ہولڈر کی ناگہانی موت کی صورت میں فوائد حاصل کرتا ہے۔ ان فوائد میں سم اشورڈ یا فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو میں سے جو بھی زیادہ ہو شامل ہوتے ہیں۔

فوائد:

مندرجہ ذیل تحفظ اور سرمایہ کاری جیسے عمومی لاگو فوائد کے علاوہ، حفاظت پلان آپ کو اضافی فوائد فراہم کرتا ہے اور اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد اور مالی استطاعت کے مطابق مختلف بیمہ فوائد میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔

سم اشورڈ اور فوائد کے حصول کے لئے آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنے وارث کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں۔

اضافی فوائد:

1- آٹومیک کوریمنٹیشن:

دو سال تک پریمنیم کی ادائیگی کے بعد اگر آپ پریمنیم ادا نہ کر پائیں تو بھی آپ لائف انشورنس تحفظ کے اہل ہوں گے، جب تک آپ کے پلان کی کیش ویلیو پالیسی چارجز کی ادائیگی کے لئے کافی ہو۔

2- ایڈہاک پریمنیم:

اگر آپ کے پاس کسی بھی مرحلے پر اضافی فنڈز دستیاب ہوتے ہیں تو آپ حفاظت پلان کے تحت کسی بھی وقت اپنی مرضی کے کسی فنڈ میں سرمایہ کاری کے لئے مختص کر سکتے ہیں۔ ایڈہاک میں سرمایہ کاری سے آپ کی کیش ویلیو میں اضافہ ہوگا۔

اختیاری فوائد:

1- حادثاتی موت:

پالیسی ہولڈر کی حادثاتی موت کی صورت میں نامزد کردہ ورثاء کو ایک اضافی رقم ادا کی جائے گی۔

2- فیملی اکم بینیفٹ:

پالیسی ہولڈر کی ناگہانی موت کی صورت میں متواتر اخراجات کی ادائیگی کے لئے نامزد کردہ ورثاء کو ایک خاص مدت تک کے لئے باقاعدگی سے ایک اضافی رقم ادا کی جائے گی۔

3- سنگین بیماری:

پالیسی کے دوران پالیسی ہولڈر کو کسی مخصوص سنگین بیماری کی تشخیص کی صورت میں پالیسی ہولڈر کو ملنے والا اسم اشورڈ بینیفٹ ادا کر دیا جائے گا۔

4- مستقل مکمل معذوری:

پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر کو مستقل مکمل معذوری کی صورت میں اسم اشورڈ بینیفٹ ادا کیا جائے گا۔

5- حادثاتی موت اور معذوری:

پالیسی ہولڈر کی حادثاتی موت یا معذوری کی صورت میں نامزد کردہ ورثاء / پالیسی ہولڈر کو اضافی رقم ادا کی جائے گی۔

6- ہاسپٹلائزیشن کے لئے کیش:

ہسپتال میں داخلے کی صورت میں پالیسی ہولڈر کو 3,000 روپے یومیہ بینیفٹ ادا کیا جائیگا۔ مخصوص سنگین بیماریوں میں سے کسی بیماری کی تشخیص پر ہاسپٹلائزیشن کی صورت میں یہ بینیفٹ دُگنا ادا کیا جائیگا۔ انتہائی نگہداشت یونٹ (ICU) میں داخلے کی صورت میں 50% اضافی بینیفٹ واجب الادا ہوگا۔ اس پلان کے تحت یہ کوریج شریک حیات اور بچوں کو بھی فراہم کیا جاسکتا ہے۔

7- پرمیئم کی چھوٹ:

کسی بیماری یا معذوری کی صورت میں اگر آپ اپنا موجودہ پیشہ یا کوئی اور پیشہ (جو کہ آپ کی ذہانت، تربیت یا تعلیم کے مطابق ہو) 6 ماہ یا زائد جاری نہ رکھ سکیں تو پرمیئم کی اگلی واجب الادا تاریخ سے آپ کا پرمیئم جو بلی لائف خود ادا کرے گی۔

سرمایہ کاری کے مواقع:

1- پرمیئم ایلیکشن:

آپ کی سرمایہ کاری کیلئے مختص پرمیئم کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا سال	دوسرا سال	تیسرے سال سے پانچویں سال	چھٹے سال اور زائد	ایڈ ہاک
40%	80%	100%	103%	100%

2- سرمایہ کاری کے لئے فنڈز کا انتخاب:

درج بالا ٹیبل کے مطابق آپ کی ادائیگیوں کو آپ کی مرضی کے فنڈز میں مختص کیا جائے گا۔

فنڈز

مینیچر فنڈ:

مینیچر فنڈ کا مقصد متوازن سطح کے وسیع رینج والے شیئرز، حکومتی اور قسڈ انکم سیکورٹیز اور دیگر کیش ڈپازٹس میں ایسی سرمایہ کاری ہے جس سے سرمائے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ممکن ہو سکے۔

کیپٹل گروتھ فنڈ:

کیپٹل گروتھ فنڈ کا مقصد پالیسی ہولڈرز کے لئے اسٹاک کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ہے جس کے لئے مختلف اقسام کے اثاثہ جات پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس میں گورنمنٹ سیکورٹیز، ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ اور بینک ڈپازٹس شامل ہیں۔

بیٹا فنڈ:

بیٹا فنڈ کا مقصد ایسے سرمایہ کاروں کو مواقع فراہم کرنا ہے جو سود سے پاک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا فنڈ کے ذریعے منتخب کردہ اسٹاکس، سکوک بانڈز، اسلامی بینکوں کے شارٹ ٹرم ڈپازٹس، اسلامی میوچل فنڈز، اسلامی بینکوں کے قسڈ انکم فنڈز اور دیگر سود سے پاک سرمایہ کاری کے ذرائع میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔

یعقین گروتھ فنڈ:

یعقین گروتھ فنڈ کا مقصد جو بلی لائف کے پالیسی ہولڈرز کو ایکویٹی سے کم سے کم متاثر ہونے والے قسڈ انکم سیکورٹیز کے وسیع پورٹ فولیو میں شرکت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یعقین گروتھ فنڈ ایسے افراد کے لئے مناسب ہے جو ڈیٹ سیکورٹیز کے زیر اثر سرمایہ کاری سے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

نوٹ: جو بلی لائف کے فنڈز کے یونٹ نرخ صف اول کے روزناموں میں اور جو بلی لائف کی ویب سائٹ www.jubileelife.com پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

اضافی معلومات:

جزوی دستبرداری:

کسی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر کوئی بھی رقم نکلا سکتے ہیں۔ جبکہ پالیسی کی باقی ماندہ کیش ویلیو * 18,000 روپے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کو لائف

انشورنس کو حاصل رہے گا بہر حال آپ کے سم اشورڈ سے جزوی طور پر نکالی گئی رقم جتنی کٹوتی کی جائے گی۔ جزوی دستبرداری کا اختیار پالیسی کے دو سال مکمل ہونے اور دو سالانہ پریئم کی ادائیگی کے بعد دستیاب ہوتا ہے۔

* باقی ماندہ کیش ویلیو کی حد پر کمپنی نظر ثانی کر سکتی ہے۔

مکمل دستبرداری:

آپ کو پالیسی کے دو سال مکمل ہونے اور دو سالانہ پریئم کی ادائیگی کے بعد کسی بھی وقت پالیسی سے دستبرداری کا اختیار حاصل ہے۔ دستبرداری پر آپ کو آپ کے فنڈز کی کیش ویلیو کی مکمل ادائیگی کر دی جائے گی۔ بہر حال پالیسی کے ابتدائی سالوں میں دستبرداری کی صورت میں کیش ویلیو میں کمی واقع ہوگی۔

فری لک عرصہ:

آپ کو 14 دن کا فری لک عرصہ دیا جائے گا جس کے دوران آپ پالیسی کی شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو پالیسی منسوخ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پریئم، پالیسی کے اجراء کی تاریخ کے 14 دن کے اندر آپ کی تحریری درخواست پر آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو بلی لائف طبی معائنے پر ہونے والے اخراجات (اگر کوئی ہوئی تو) کی کٹوتی کی مجاز ہے۔

افراط زر سے مقابلہ:

افراط زر سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ پالیسی میں انڈیکسیشن کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔ اس آپشن کے تحت کمپنی کی طے کردہ حد کے مطابق پریئم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ انڈیکسیشن کا آپشن مسترد کر دیں۔

پلان کے حصول کا طریقہ:

حفاظت پلان حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایچ بی ایل کی برانچ میں موجود جو بلی لائف انشورنس کے نمائندوں کو مندرجہ ذیل مکمل شدہ دستاویزات جمع کرانے ہوں گے:

- شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی
- مکمل پروپوزل فارم بمعہ دستخط
- دستخط شدہ ڈائریکٹ ڈیپٹ انسٹرکشنز
- دستخط شدہ بیسک فیکٹ شیٹ
- دستخط شدہ پراڈکٹ انٹروڈکشن ڈاکیومنٹ
- اسمنٹ فارم
- دستخط شدہ السٹریشن

چار جزی:

پلان پر مندرجہ ذیل چار جزی* لاگو ہوں گے:

- فنڈ ویلیو کا 1.5% سالانہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج

- 110 روپے ماہانہ انتظامی فیس
- 5% بڈ آفرا سپرڈ
- پالیسی فیس:
- سالانہ اور ماہانہ پریمنیم کی ادائیگی کی صورت میں 0 روپے
- ششماہی پریمنیم کی ادائیگی کی صورت میں 250 روپے
- سہ ماہی پریمنیم کی ادائیگی کی صورت میں 300 روپے
- موٹیلیٹی چارجز کا اطلاق (ایس ای سی پی سے منظور شدہ)
- رائیڈز منتخب کرنے کی صورت میں لاگورائیڈرز چارجز
- سوئچنگ / ری ڈائریکشن، 500 روپے اگر فی سال چار سے زائد منتخب کیا گیا ہو
- * جوہلی لائف انشورنس تمام معاوضوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔

اعلانات:

- یہ پراڈکٹ جوہلی لائف کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ایچ بی ایل پاکستان یا اس سے ملحقہ ادارہ اس سے متعلقہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پراڈکٹ ایچ بی ایل پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ بیمہ شدہ کسٹمرز یا ورثاء کو کلیم کی ادائیگی کے لئے جوہلی لائف ذمہ دار ہے۔
- جوہلی لائف کے فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی نشاندہی کرے۔ کوئی بھی گئی یا پیش گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کو ظاہر کرے۔ اس سلسلہ میں نہ تو جوہلی لائف اور نہ ہی ایچ بی ایل پاکستان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔
- ہمارا سیلرز کا نمائندہ آپ کو ذاتی الشیریشن فراہم کرے گا۔ براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کی تفصیلات جاننے کے لیے الشیریشن میں دیئے گئے نوٹس کا مطالعہ کریں۔
- براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کے تفصیلی جائزے کے لئے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔
- پالیسی حاصل کرتے وقت بیمہ دار کی عمر 55 سال ہو یا قریب ترین تاریخ پیدائش اسکے قریب ہو تو ضمنی فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔
- ایچ بی ایل پاکستان، جوہلی لائف کے لئے تقسیم کار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور کسی طور پر بھی کسی شخص، بیمہ شدہ فرد یا وارث کو جوابدہ نہیں ہے۔
- سرمایہ کاری میں نقصان خدشات پالیسی ہولڈر کی جانب سے برداشت کئے جائیں گے، پلان کی تکمیل کے وقت یا پالیسی ختم کرنے کے وقت اصل رقم بیان کردہ رقم کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔
- براہ کرم بنیادی فنڈ کے ٹارگٹ ایسٹمس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے:

<http://jubileelife.com/investor-relations/investors-out-look/>

رابطہ کی تفصیلات:

شکایت اور مزید تفصیلات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A، لالہ زار ایم ٹی خان روڈ، کراچی، 74000، پاکستان

ٹیلی فون: (021) 32120201, 35205094

فیکس: (021) 35610959

ای میل: info@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileelife.com

یو اے این: (021) 111 111 554

ایس ایم ایس: "JUBILEELIFE" لکھ کر 8398 پر بھیجیں

حبیب بینک لمیٹڈ

یو اے این: 111-111-425

ویب سائٹ: www.hbl.com